

# PAST PAPER ANALYSIS

پیپر میں آپ کو 8 قرآنی الفاظ دیے جائیں گے، جن میں سے 5 قرآنی الفاظ کے معانی تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ سر اسامہ کے تجزیے کے مطابق اگر آپ ان منتخب قرآنی الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو 5 قرآنی الفاظ والا سوال مکمل طور پر تیار ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اہم قرآنی الفاظ ہیں جو گزشتہ دو سالوں کے امتحانات میں بار بار پوچھے جارہے ہیں، اس لیے ان پر خصوصی توجہ دینا طلبہ کے لیے نہایت مفید ثابت ہو گا۔ مزید یہ کہ سر اسامہ کے تجزیے کے مطابق اگر آپ صرف سورہ نمبر 1، 2، 4 اور 6 کے ذخیرہ الفاظ تیار کر لیتے ہیں، تو یہ کل تقریباً 82 الفاظ بنتے ہیں، جو امتحانی تیاری کے لیے نہایت اہم اور موثر سمجھے جاتے ہیں۔ طلبہ کی آسانی اور بہتر سمجھ کے لیے گزشتہ امتحانی پرچے کی تصاویر بھی نیچے شامل کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔

سوال 3: کوئی سے پانچ قرآنی الفاظ کے معنی تحریر کیجیے:

(iv) 7) اَكْرَمَكُمْ

(iii) 2) كَذَّبُوا

(ii) 4) اِنَّمَا مُبِينًا

(i) 6) ذَرِيَّةٌ

(viii) 6) يَبْتَغُونَ

(vii) 4) اَصِيْلًا

(vi) 2) اَيَّدِيَهُمَا

(v) 10) اَلْبَارِئِ

(5 × 1 = 05)

سوال 3: درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ الفاظ کے معانی تحریر کیجیے۔

(iv) 1) يَا مُرَّكُمْ

(iii) 1) تَأْوِيلًا

(ii) 7) اَقْرَبُ

(i) 4) دَعُ

(viii) 4) اَلظُّلْمِ

(vii) 2) لَا يَغْتَبِ

(vi) 6) رُحَمَاءُ

(v) 10) اَلْحُسْنٰى

05

سوال 3: کوئی سے پانچ (5) قرآنی الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔

(iv) 1) تَجِيَّتُهُمْ

(iii) 3) اَلدَّمْعُ

(ii) 2) مِنْهَا جَا

(i) 1) نَصِيْبٌ

(viii) 5) لَا يَسْتَوِي

(vii) 4) اِخْوَةٌ

(vi) 7) اَشِدَّاءُ

(v) 5) صَلَوًا

05

سوال 3: کوئی سے پانچ قرآنی الفاظ کے معنی تحریر کیجیے:

(iv) 6) كَرَزِعٍ

(iii) 4) اَلظُّلْمِ

(ii) 1) مُهَيَّبِنَا

(i) 1) بَيْنَكُمْ

(viii) 10) لَا يَسْتَوِي

(vii) 7) لَحْمٌ

(vi) 7) لَا تَجَسَّسُوا

(v) 6) يَبْتَغُونَ

(5 × 1 = 5)

سوال 3: درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ قرآنی الفاظ کے معانی تحریر کیجیے۔

(ii) 1) سَعِيْرًا

(i) 3) ذَرِيَّةٌ

(iv) 7) تَفِيْضٌ

(iii) 2) كَذَّبُوا

(vi) 6) رُحَمَاءُ

(v) 4) مُبَشِّرًا

(viii) 10) اَلْفَايِزُونَ

(vii) 7) لَحْمٌ

## ذخیره الفاظ (غیر حل شدہ)

### 01 سُورَةُ النَّسَاءِ

الفاظ	آیت نمبر	نمبر شمار
نِسَاءَ	1	1
حُوبًا	2	2
الْحَبِيبَاتِ	2	3
بِالطَّيِّبِ	2	4
لَا تَأْكُلُوا	2	5
ذُرِّيَّةَ	3	6
سَعِيرًا	4	7
نَصِيبَ	7	8
لِلرِّجَالِ	7	9
لِلنِّسَاءِ	7	10
تَرَاضٍ	29	11
بِالْبَاطِلِ	29	12
بَيْنَكُمْ	29	13
نُضْلِيهِ	30	14
يَسِيرٌ	30	15
إِنْ تَحْتَبُوا	31	16
لَا تَتَمَنَّوْا	32	17
بِكُمْ	32	18
حَكْمَتُمْ	58	19
تَأْوِيلًا	59	20
يَا مُرْكُم	58	21
نِعْمًا	58	22
عُدْوَانًا	30	23
أَنْ تُؤَدُّوا	58	24
أُولَى الْأَمْرِ	59	25

## 02 سُورَةُ الْمَائِدَةِ

الفاظ	آيت نمبر	نمبر شمار
لَا يَجْرِي مِنْكُمْ	2	1
مُهَيِّمًا	7	2
بِالْقِسْطِ	8	3
قَوْمِينَ	8	4
كُونُوا	8	5
شَنَانُ	8	6
أَقْرَبُ	8	7
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ	10	8
كَذَّبُوا	10	9
السَّارِقَةَ	38	10
السَّارِقِ	38	11
أَيْدِيَهُمَا	38	12
نَكَالًا	38	13
بِشْرَعَةٍ	48	14
مُصَدِّقًا	48	15
مِنْهَاجًا	48	16
تَفِيضُ	83	17
تَرَى	83	18
أَلَدَّ مَعَ	83	19
أَعْيُنَهُمْ	83	20
فَأَكْتُبْنَا	83	21
نَطْمَعُ	84	22
الْمُحْسِنِينَ	85	23
أَتَابَهُمْ	85	24
الْأَنْهَرُ	85	25

## 04 سُورَةُ الْأَحْزَابِ

الفاظ	آيت نمبر	نمبر شمار
مُهَيِّينَ	13	1
مَنْ رَجَّالِكُمْ	40	2
خَاتَمُ النَّبِيِّنَ	40	3
أَصِيلًا	42	4
بُكْرَةً	42	5
يُصَلِّي	43	6
الظَّلْمَتِ	43	7
تَحِيَّتُهُمْ	44	8
نَدِيْرًا	45	9
مُبَشِّرًا	45	10
أَرْسَلْنَاكَ	45	11
يَاذِنِهِ	46	12
سِرَاجًا مُنِيرًا	46	13
دَعِ	48	14
أَذَاهُمْ	48	15
صَلُّوْا	56	16
سَلِّمُوا	56	17
إِحْتَمَلُوا	58	18
يُؤَدُّوْنَ	58	19
إِثْمًا مُبِينًا	58	20

# 06 سُورَةُ الْفَتْحِ

الفاظ	آيت نمبر	1
أَشِدَّاءُ	29	2
سَيِّمَاهُمْ	29	3
فَارَزَهُ	29	4
عَلَى سُوْقِهِ	29	5
رُحَمَاءُ	29	6
كَزْرَعٍ	29	7
فَاسْتَعْلَظَ	29	8
يُعْجِبُ	29	9
يَبْتَغُونَ	29	10
شَطْتَهُ	29	11
فَاسْتَوَى	29	12
الزَّرَاعِ	29	13

## ذخیرہ الفاظ (حل شدہ)

### 01 سُورَةُ النَّسَاءِ

معانی	الفاظ	آیت نمبر	نمبر شمار
عورتیں	نِسَاءً	1	26
گناہ	حُوبًا	2	27
رڈی چیز	الْخَبِيثَاتِ	2	28
عمدہ چیز سے	بِالطَّيِّبِ	2	29
تم نہ کھاؤ	لَا تَأْكُلُوا	2	30
اولاد	ذُرِّيَّةً	3	31
بھڑکتی ہوئی آگ	سَعِيرًا	4	32
حصہ	نَصِيبٌ	7	33
مردوں کے لیے	لِلرِّجَالِ	7	34
عورتوں کے لیے	لِلنِّسَاءِ	7	35
باقی رضامندی	تَرَاضٍ	29	36
ناجائز طریقے سے	بِالْبَاطِلِ	29	37
آپس میں	بَيْنَكُمْ	29	38
ہم اسے جھلسادیں گے	نُضَلِّيهِ	30	39
بہت آسان	يَسِيرٌ	30	40
اگر تم بچتے رہو	إِنْ تَجْتَنِبُوا	31	41
تو تمنا نہ کرو	لَا تَتَمَنَّوْا	32	42
تمہارے ساتھ	بِكُمْ	32	43
تم فیصلہ کرو	حَكْمُكُمْ	58	44
انجام میں	تَأْوِيلًا	59	45
وہ تمہیں حکم دیتا ہے	يَأْمُرُكُمْ	58	46
کیا ہی خوب	نِعْمًا	58	47
زیادتی سے	عُدْوَانًا	30	48
کہ تم سپرد کرو	أَنْ تُؤَدُّوا	58	49
صاحب اختیار	أُولِي الْأَمْرِ	59	50

## 02 سُورَةُ الْمَائِدَةِ

معانی	الفاظ	آیت نمبر	نمبر شمار
تخصیص ہرگز آمادہ نہ کرے	لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ	2	26
نگران	مُهَيِّمًا	7	27
انصاف کے ساتھ	بِالْقِسْطِ	8	28
مضبوطی سے قائم رہنے والے	قَوْمِينَ	8	29
تم ہو جاؤ	كُونُوا	8	30
دشمنی	شَتَانُ	8	31
زیادہ قریب	أَقْرَبُ	8	32
جہنم والے	أَصْحَابُ الْجَحِيمِ	10	33
انہوں نے جھٹلایا	كَذَّبُوا	10	34
چور عورت	السَّارِقَةُ	38	35
چور مرد	السَّارِقُ	38	36
ان دونوں کے ہاتھ	أَيْدِيَهُمَا	38	37
عمرت ناک سزا	نَكَالًا	38	38
شریعت	شِرْعَةً	48	39
تصدیق کرنے والی	مُصَدِّقًا	48	40
راستہ	مِنْهَاجًا	48	41
بہ رہی ہوتی ہیں	تَفِيضُ	83	42
آپ دیکھتے ہیں	تَرَايَ	83	43
آنسو	الدَّمْعِ	83	44
ان کی آنکھوں کو	أَعْيُنَهُمْ	83	45
پس ہمیں لکھ لے	فَاكْتُبْنَا	83	46
ہم توقع رکھتے ہیں	نَظْمَعُ	84	47
نیکی کرنے والے	الْمُحْسِنِينَ	85	48
انہیں بدلے عطا فرمائے گا	أَنَّا بِهِمْ	85	49
نہریں	الْأَنْهَارِ	85	50

## 04 سُورَةُ الْأَحْرَابِ

معانی	الفاظ	آیت نمبر	نمبر شمار
ذلت والا	مُهَيِّنٌ	13	21
تمہارے مردوں میں سے	مَنْ رَجَالِكُمْ	40	22
خاتم النبیین، آخری نبی	خَاتَمِ النَّبِيِّينَ	40	23
شام	أَصِيلًا	42	24
صبح	بُكْرَةً	42	25
وہ رحمت نازل فرماتا ہے	يُصَلِّي	43	26
اندھیرے	الظُّلْمِ	43	27
ان کا استقبال ہوگا	تَحِيَّتُهُمْ	44	28
ڈرانے والا	نَذِيرًا	45	29
خوش خبری سنانے والا	مُبَشِّرًا	45	30
ہم نے آپ کو بھیجا	أَرْسَلْنَاكَ	45	31
اس کے حکم سے	بِأُذْنِهِ	46	32
روشن چراغ	سِرَاجًا مُنِيرًا	46	33
پرواہ نہ کریں	دَعُ	48	34
ان کی ایذا رسانی کو	أَذَاهُمْ	48	35
تم بھی درود بھیجو	صَلُّوا	56	36
سلام بھیجو	سَلِّمُوا	56	37
انہوں نے بوجھ اٹھایا	إِحْتَمَلُوا	58	38
اذیت پہنچاتے ہیں	يُؤْدُونَ	58	39
واضح گناہ	إِنَّمَا مُبِينًا	58	40

# 06 سُورَةُ الْفَتْحِ

معانی	الفاظ	آیت نمبر	14
بڑے سخت	أَشَدَّاءُ	29	15
ان کی علامت	سَيِّمَاهُمْ	29	16
پھر اسے مضبوط کیا	فَأَزَرَهُ	29	17
اپنے تنے پر	غَلَى سَوْقَهُ	29	18
رحم دل ہیں	رُحَمَاءُ	29	19
اس کھیتی کی طرح	كَزُرْعٍ	29	20
پھر وہ موٹی ہو گئی	فَاسْتَعْلَظَ	29	21
کیا ہی اچھی لگنے لگی	يُعْجِبُ	29	22
وہ طلب گار ہیں	يَبْتَغُونَ	29	23
اپنی باریک سی کونپل	سَطَنَهُ	29	24
پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی	فَاسْتَوَى	29	25
کاشت کاروں کو	الزُّرَّاعِ	29	26